

60. AL-MUMTAHANAH (SLAWIE GI NUJEI)

Suet ke-60: 13 ayat

Ngen madeak gen Allah de Paling Pengasiak
kulo paling Penyayang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Hoi tun-tun da beimen jibeakba udi mok musuak-Ku *dan* musuak-nu ijai kuwat-kuwat setia da udi sapei ngen si (brita-brita Muhammad), kerno asai kasiak saying, padahal sebeneane si bik ikar ngen kebenea da teko ngenko, si musir rasul *dan* (musir) udi kerno udi beimen ngen Allah, Tuhannu. Amen udi vbenea-benea kelua utuk berjihad neak dalen-Ku ngen mesoa keridoan-Ku (jibeakba udi kerjo awei-o). Mako kelei namenba ca-o resio (brita-brita Muhammad) ngen si, kerno asai kasiak saying. Uku lebiak namen jano da udi munyin *dan* da udi kemten. *Dan* api neak antaro udi da kemerjone, mako sebeneane si bik tesesat kunei dalen da lu-us.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ءَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرِوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَحْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾

2. Amen si temakep udi paset si betindak awei musuak utuk-nu *dan* empas tangent ngen dileak-ne ngen ko ngen megis (ko); *dan* si lok buliak udi (belek) kapia.

إِنْ يَتَّقِفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ ءَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَنَّهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾

3. Krip krabat ngen anak-anok-nu agok debat coa ade guno utuk-nu pado bilai kiyamat.Si lok cem-ei antaro udi dan Allah Paling Kemliak jano da udi kemerjo.

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا ءَوْلَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾

4. Sebeneane bik ade coto teladan da baik utuknu kunei Ibrahim *dan* tun-tun da berpok ngen si, idong si madeak ngen kaumne: sebeneane keme empas dirai kunei mudi sembeak seluyen Allah, keme coa pecayo (kapia)-nu *dan* bik nyato antaro keme ngen udi musuak da jengik

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ ءَأْسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا

utuk slamo-lamone sapei udi beimen ngen Allah bae. Kecuali kecek Ibrahim ngen bapokne: sebeneane uku lok minoi apun utuk udi *dan* uku coa dapet temulung didikpun kunei udi (sikso) Allah.(Ibrahim madeak): hoi Tuhan keme hanyo ngen Ko ba keme betawakal *dan* hanyo ngen Ko ba keme betubat *dan* hanyongen Ko ba keme belek.

5. Hoi Tuhan keme jibeak ba Ko menea keme (sasaran) fitnah utuk tun-tun kapia. *Dan* apun ba keme hoi Tuhan keme sebeneane Ko, Ko-ba da Paling Perkasa kulo Paling Bijaksana.

6. Sebeneane pado si-o (Ibrahim ngen umatne) ade teladan da baik utuk-nu; (dioba) utuk tun da ma-ep (pahalo) Allah *dan* (keslamatan pado)bilai kiymat. *Dan* api da coa dulai, mako sebeneane Allah, Sib a da Paling Kayo kulo Paling Terpuji.

7. Mudah-mudahan Allah temim(b)oa kasiak sayang antaronu ngen tun-tun da udi musuak neak antaro udi. *Dan* Allah oba Paling Kuaso. *Dan* Allah Paling Pengapun kulo Paling Panyayang.

8. Allah coa temgeak udi utuk memerjo baik *dan* belaku adia adep un-tun da coa semrang-ko kerno agamo *dan* coa kulo musir udi kunei negrainu. Sebeneane Allah tujau tun-tun da belaku adia.

9. Sebenane Allah temgeak udi menea utuk kuwatnu tun-tun da semrang udi kerno agamo *dan* musir udi kunei negrainu *dan* temulung (tun luyen) utuk musir ko. *Dan* api menea si ijai kuwat mako si-o ba tun-tun da zalim.

10. Hoi tun-tun da beimen, amen teko behijrah ngen ko slawei-slawei dabeimen,

وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا

بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ

لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا

عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٥٠﴾

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥١﴾

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ

يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ

هُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٥٢﴾

﴿٥٣﴾ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ

مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ ﴿٥٤﴾ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٥﴾

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ

وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا

إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٦﴾

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ

وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ

إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٧﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ

mako kelokne udi ujai (imen)-ne. Allah lebiak namen tentang imen-ne; mako amen udi bik namen bahwa si (benea-benea) beimen mako jibeak-ba udi melek si ngen (sengaten-sengaten-ne) tun-tun kapia. Si coa halal utuk tun-tun kapia-o dan tun-tun kapia-o coa halal kulo utukne. Dan nelei ba ngen (sengaten-sengaten)ne mahar da bik si bayar dan coa kulo duso adepnu nikeak ngen si amen udi bayar ngen si maharne. Dan jibeakba udi tep bepegong pado tilai (perkawinan) ngen slawei-slawei kapia; dan kelokne udi minoi mahar da bik udi bayar; dan kelokne si minoi mahar da bik si bayar. Awei-o ba hukum Allah da bik tentep-Ne neak antaro udi. Dan Allah Paling namen kulo Paling Bijaksana.

11. Dan amen do kunei ngenyan-ngenyan-nu ngen tun-tun kapia, lajau udi kemaleak-si mako bayarkanba ngen tun-tun da melilai ngenyan-ne-o mahar kedau dabik si bayar dan betawakalba ngen Allah da ngen Si udi beimen.

12. Hoi nebai, amen teko ngen ko slawei-slaweida beimen utuk menea janjai setia bahwa si coa kan mempersekutukan didikpun ngen Allah; coa kan maling, coakan bezina, coakan munuak anak-anokne, coakan menea duso da si made-made antaro tangen ngen kekea-ne dan coakan mendurhakoi-ko lem urusan da baik, mako trimokanba janjai setiamu dan kinoiba apun ngen Allah utuk-ne. Sebeneane Allah Paling Pengapun kulo Paling Penyayang.

13. Hoi tun-tun beimen jibeakba udi menea da temulung kaum da mendurhakoi Allah, sebeneane si bik putus asa adep negrai akhirat awei tun-tun kapia bik brado lem kubua beputus asa.

مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا
أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكُوفَارِ وَسَأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنْفَقُوا
ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ لِحُكْمِ بَيْنِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



وَأَنْفَقُوا ۗ وَالَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَى
أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ
وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ
بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ۗ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي
مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكُفَّارُ
مَنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٤﴾